



بجلی کی بندش کے دوران کیا کرنا چاہیئے

- ۱۔ بجلی کی تاروں کے گرنے کی فوری اطلاع دیں، اور دور رہیں۔
- ۲۔ بجلی کے جانے کی اطلاع 416.542.8000 پر دیجیے

تیار رہیے

ویسے تو بجلی زیادہ عرصہ کے لیے منقطع نہیں ہوتی، مگر پھر بھی، ہر گھرانے کو مشکل حالات کے لیئے منصوبہ بندی کرنی چاہیئے۔ آنے والے وقت کی منصوبہ بندی میں باخبر رہنا اور بجلی کی بندش کے دوران محفوظ رہنا ہے۔

اس فہرست کے ساتھ پیش بندی کے طور پر مزید منصوبہ بندی کیجیئے

بھاری تیار کردہ ایمرجنسی لسٹ کو torontohydro.com/emergencykit سے پرنٹ کریں۔

72 گھنٹوں کی ہنگامی کٹ [ضروری اشیاء] تیار رکھو:

- ۱۔ ہر دن کے لیے فی کس ۳ لیٹر پانی بوتلوں میں موجود ہو۔
- ۲۔ جلد خراب نہ ہونے والا، پکا پکایا کھانا، ہاتھ سے کین کھولنے والا آلہ، قابل تصرف برتن اور پلیٹیں۔
- ۳۔ موم بتی، ماچس، لائٹرز، ٹارچ اور غیر استعمال شدہ بیٹریز۔
- ۴۔ بیٹریز سے چلنے والا ریڈیو اور غیر استعمال شدہ بیٹریز۔
- ۵۔ فرسٹ ایڈ کیٹ۔

پوری لسٹ اس لنک پر ملاحظہ کریں torontohydro.com/emergencykit

باخبر رہیئے مقامی ذرائع ابلاغ کی خبروں کو سنیں اور ٹویٹر پر ہمارے ساتھ رہیں

@TorontoHydro.

اپنے موبائل آلات کو چارج رکھئے اگر طوفان آرہا ہو تو، تمام موبائل آلات کو چارج کر لیں اور۔ ہنگامی حالات میں فون نمبر کی لسٹ کو قریب رکھیں۔

ضروری احتیاطی تدابیر

- تمام بجلی سے چلنے والے ہیٹر وغیرہ کو بند کر دیں، اور ان کے پلگ بھی نکال دیں، بجلی ایک دم سے زیادہ آنے کی صورت میں۔
- الیکٹرک کے آلات اور گیلی چیزوں اور سیلاب زدہ تہ خانے وغیرہ کے پاس ہرگز نہ جائیں۔
- چلتی ہوئی موم بتی کو بغیر نگرانی کے نہ چھوڑیں۔
- باربی کیوز، گیس کے باربی کیوز اور جنریٹر وغیرہ کو گھر کے اندر استعمال نہ کریں
- فریج یا فریزر کو مت کھولیں | اگر دروازہ بند رہے تو کھانا 24 سے 48 گھنٹے تک رکھا جا سکتا ہے۔ اور اگر کھانا خراب ہو جائے تو اسے ضائع کر دیں۔
- اپنے گھرانے، دوست اور ہمسایوں کی بھی خبر لیتے رہیں۔

مزید مفید مشوروں کے لیئے، یہ ویب سائٹ دیکھیں torontohydro.com/safety

ہم سے رابطہ رکھیں



ہنگامی حالات میں اکٹھے ہونے کی جگہ کا تعین کریں جو گھر سے باہر ہو۔

اپنے گھرانے کے متعلق تفصیلی ہنگامی اقدام لکھ کر، اس صفحہ کو کسی ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر اسے ڈھونڈنا آسان ہو، تاکہ آپ آنے والے طوفان کے لیے تیار رہیں۔

ہنگامی حالات میں اکٹھے ہونے کی جگہ کا تعین کریں جو گھر سے باہر ہو۔
جگہ: _____

مقامی ہنگامی رابطہ

نام: _____
گھر کا ٹیلیفون نمبر: _____
موبائل نمبر: _____
گھر کا پتہ: _____
ملازمت کی جگہ کا ٹیلیفون نمبر: _____

غیر مقامی رابطہ

نام: _____
گھر کا ٹیلیفون نمبر: _____
موبائل نمبر: _____
گھر کا پتہ: _____
ملازمت کی جگہ کا ٹیلیفون نمبر: _____

فیملی ڈاکٹر [طیب]

ڈاکٹر کا نام: _____
ڈاکٹر کا فون نمبر: _____
دواؤں کی لسٹ: _____
الرجی اور ضروری احتیاطیں: _____

اسکول / ادارہ

نام: _____
ٹیلیفون نمبر: _____

انشورنس [بیمہ]

کمپنی کا نام: _____
فون نمبر: _____
گھر کی پالیسی کا نمبر: _____
گاڑی کی پالیسی کا نمبر: _____

کیا طوفان قریب آ رہا ہے؟

۱- غیر ضروری بجلی کے آلات کو بند کر دیں۔

۲- تمام دوائیاں حاصل کر لیں۔

۳- اپنی کھڑکیوں اور دروازوں کے ساتھ ساتھ باہر کے فرنیچر اور آلات کی حفاظت کا انتظام کر لیں۔

۴- اپنی گاڑی میں گیس بھروا کے رکھیں، تاکہ ضرورت کے وقت گھر سے جلد نکل سکیں

۵- اپنی گاڑی کو محفوظ جگہ پر کھڑا کریں۔

جن افراد کی زندگی کا دارومدار بجلی سے چلنے والے آلات پر ہے، ان کے لیے معلومات

اگر آپ کی زندگی وینٹی لیٹر اور گردوں کی مشین جیسے بجلی سے چلنے والے ڈاکٹری آلات پر منحصر ہے تو براہ کرم خود کو بجلی کی بندش کے بارہ میں مطلع رکھنے کے لیے، خود کو ہمارے ساتھ رجسٹر کریں

416.542.8000

کال کریں یا ویب سائٹ پر جائیں۔

